

انجيل زاگان ء پڻ  
ماس پس

يسوع  
ء پيدائش



نوشتہ کار: Edward Hughes

السرکار: M. Maillot

Alastair Paterson

اپنائنگکار: E. Frischbutter; Sarah S.

مترجم کار: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

پیداوار کار: Bible for Children

[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،  
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



بھاز پیش، خدا یک جوانیں یہودی  
جنک مریم ء کر ء پر شتہ جبرائیل  
ء دیم دات۔ آئی ء گوشت، "تراه یک  
زاگ ء بی او آئی ء نام یسوع  
بی۔ او اعلی ء زاگ گوشگ  
بی۔ آبر وخت  
بادشاہی کنت۔"



"اے چوں بی؟" حیرانیں جنک  
پرست۔ "من کس ء مرد ء گوناں  
نہ بوتان۔" پرشتہ مریم ء گوشت  
کہ زاگ خدا بچ کیت۔ انسانی  
ء پس نہ بی۔



پرشته مريم ۽ گوشت  
که آئي ۽ تاته زاگ  
ايلزبت ۽ گونا پيري  
۽ يک زاگ ۽ بوت، آ  
بي يک معجزه ۽  
بوت، زوت پيش،  
مريم ايلزبت آ کندگ  
۽ شو. آ يکجا خدا ۽  
تعريف کر ٿنت.



مریم جوزف نامی  
یک مڑدم ء گونا  
سانگی بوت۔ جوزف  
پریشان ات وختیں  
کہ آ زانت کہ مریم  
لاپ پر انت، آ  
سوچت کہ کس دگہ  
زاگ ء پس انت۔



واب ۽ تها، خدا ۽ پرشته جوزف  
آگوشٽ ڪه آخدا ۽ زاگ انت۔  
جوزف ۽ يسوع ۽ پيال ۽ مريم  
۽ ڪمڪ ڪنگي ات۔



جوزف یقین کړت او خدا ء فرمانداری ء کړت۔ آوتی ڈے

ء قانون ء فرمانبرداری

بی کړت، یک نوکین

قانون ء وجه بچ،

آ او مریم

ٹیکسانی

ادائیگی



ء په بټی ودی بوټی شار ء یله دانتت۔





مریم زاگ و دی  
کنگ ء پہ تیار ات۔  
بلہ جوزف کڈی ء  
ودی کڑت نہ کڑت۔  
کل ء انس پر اتنت۔



جوزف آخر یک جگ ء ودی کڑت۔ آده، زاگ یسوع ودی

بوت۔ آئی ء ماس آرہ یک چرنی ء  
پیر کڑت، یک جاہ کہ آده جناورانی

خوراکاناں پیر

کڑتک

بوت۔



نزیك، شوپان آوانی و سپیگا حفازت ' کو الله ملائک فرشته  
ظاہر بوت ر آیانا گوشت اجب حالاو۔



ودی شمیگانٹ "دا ء ایش روچ نیام شار ء ڈیوڈ یک سیوئیر

کئے ء کرائسٹ ہداینداو تو مرضی

گندگ زاگ پیر نیام یک

آخر۔"



ناگمان، باز گیشتر روشن ء پرشته زیات ظاہر  
بو، تعریف کنگ اللہ ر او گوشت، نیام

تان اعلی اللہ ر سرء ایر کنوک

زمین



آسراتاو، جوان  
مرضی طرف

ء شر مردمان۔"



شوان ء زوت كڑت تان تبيله زاگ ان  
گندگ گوشت پده پريكے آياں ملت چه  
پرشتهان ات گشت بارا آيسوع يا۔




چهل روچاں پشتري، جوزف ر مريم  
آرگ يسوع تان هوندرى نيام يروشلم  
دا يك مرد نامى سيمن تعريف

كڙت الله په زاگاو، نيامان  
كونين، كوننگ اينا، اندگه  
ء هدا بند هفتمى،

دات

مهربانى-



اردکین یسوع نٔت الله ازانت بچک ،  
عهه کٔرت سیوئیر جوزف قربانی دات

ده مرگان ایش الله أتن قانون

پیش کٔرت گشت غریب

نیستگار مخلوق آرنگ


کدیں آن پیش

کٔرت یک

نوکیں ودی


بیوک زاگا

تان هدابند یا۔






چند وخت بچ پيڻ،  
يک خصوصي ستاره  
ء عقلمند ء مڙدم روچ  
ٺڪ ء ملڪ بچ




يروشلم بڙت۔ "آ کجا انت  
که آ يهوديانی بادشاه ودي  
بوتا؟" آيان پرسينت۔ "ماه  
آئی ء عبادت کنگ لوٽين۔"




بادشا ٻيروڏ عقلمند ء مرڏم  
ء ٻچڪت. مصيبت بو، آ  
آيانچہ پرست کہ آ يسوع آ  
ديستنت. "من بي آئي ء  
عبادت ڪنگ ء لوٽس."  
ٻيورڏ گوشت. بله آ دروگ  
برگ ات. ٻيورڏ يسوع آ  
ڪشگ لوٽنت.



اے ستارہ عقلمند ء مژدم آ  
ہما مکان ء طرف آبڑت کہ  
آدہ جوزف او مریم کسانیں  
زاگ ء گوناں اتان۔ وتی سرا  
جالا کڑتگ مسافراں  
یسوع ء و شبو او  
سور ء تحفہ دانتت۔





خدا حکمت مندانا ہدایت کړت  
که چهپ چهپ رواه- پیورڈ  
جرباتی ات- یسوی ء تباہی ء  
عزم ء کړتگان یروشلم ء تہا  
زاگانان کشت۔



بله بیورڈ خدا ء زاگ ء  
نخصان دات نہ کڑت!  
یک واب ء تہا خبردار  
کڑتگ بو، جوزف مریم  
او یسوع ء حفاظت ء  
مصر ء بڑت۔



وخته كه پيورڈ مرٹ  
جوزف مريم او يسوع  
آ مصر بچه پس يارٹ۔



آنظاريت ء كسانين  
قصبه بوتان، دريا ء گاليلي ء كرا۔



يسوع ۽ پيدائش

يک قصہ ۽ خدا ۽ لوزان، انجيل


تہا دیدگ بوتہا

میتوں 2-1، لئوک 2-1


"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119





36



60





انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔  
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانی کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آثارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا  
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہاز دوست کنت او آ وتی پاک ء زاگ چیزس ء  
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس  
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناہانی معافی لوٹے،  
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:  
جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ  
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا  
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ  
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ  
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

